

7 ستمبر، 2017

عزیزی اہل خانہ،

یہ یقینی بنانا کہ آپکا بچہ ایک محفوظ، معاونتی اور مضمولاتی تدریس ماحول میں تعلیم پائے ہماری اولین ترجیح ہے۔ اسکولی ثقافت اور ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، ہم انسدادی طریق کار استعمال کرتے ہیں جو اختلاف کی اصل وجوہات سے نمٹتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ تعلیم پذیر اوقات کے ذریعے مثبت طرز عمل کو فروغ دینا اہم ہے۔ اسکے ساتھ ہی، ہم طلبا کو انکے اعمال کے لیے جوابدہ ٹھہراتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ خود انعکاسی کریں اور کسی بھی ہونے والے نقصان کی تلافی کریں۔

ایک مستحکم بنیاد قائم کرنے کے لیے جس پر طلبا نشو و نما پائیں اور پھلیں پھولیں، آج ہمارے اسکول، اسکول تجدید کردہ طلبا کی تدریس کی اعانت میں شہر پیما طرز عمل کی توقعات (ضابطہ انضباط) اختیار کر رہے ہیں۔ تبدیلیوں میں شامل ہیں رہنمائی مداخلتیں، معاونتی اقدامات، اور پیش رفت پذیر انضباط جو طالب علم کی سماجی اور جذباتی نشو و نما کے مطابق ڈھالا گیا ہو۔ تمام ترمیمات عوامی جائزہ طریق کار کا نتیجہ ہیں جس میں سماعتیں اور آپ جیسے برادری کے ممبران کی جانب سے تبصرات شامل ہیں۔

میں آپکی ضابطہ انضباط کا جائزہ لینے اور طرز عمل کے معیارات سے مانوس ہونے کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں — اور ان معیارات کی تکمیل نہ کیے جانے کی صورت میں نتائج سے بھی۔ براہ مہربانی ان معیارات کے بارے میں اپنے بچے کے ساتھ گفتگو کریں۔ مکمل ضابطہ انضباط 10 زبانوں میں محکمہ تعلیم (DOE) کی ویب سائٹ [schools.nyc.gov/RulesPolicies/DisciplineCode/default.htm](https://schools.nyc.gov/RulesPolicies/DisciplineCode/default.htm) پر اور اسکول میں اسکی ہارڈ کاپی دستیاب ہے۔ ضابطہ انضباط میں خاکہ کش معیارات کا اطلاق اس طرز عمل پر ہوتا ہے جو ذیل میں وقوع پذیر ہو:

- اسکول میں، قبل، اور اسکولی دن کے دوران اور اوقات کے بعد؛
- ان سواریوں میں سفر کرنے کے دوران جن میں DOE کی سرمایہ کاری ہو؛
- اسکول کی طرف سے کی گئی تقریبات میں؛ اور
- اسکولی املاک سے باہر جب یہ طرز عمل تعلیمی طریق عمل کو منفی انداز میں متاثر کرے یا اسکولی برادری کی صحت، حفاظت، اخلاقیات یا بہبود کو خطرے میں ڈالے۔

ضابطہ انضباط کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حصہ A گریڈ کنٹر گارنٹن تا 5 تک کے لیے ہے اور حصہ B گریڈ 6 تا 12 تک کے لیے ہے۔ ہر ایک حصے میں، خلاف ورزی کی پانچ سطوح ہیں اس کے ساتھ ساتھ رہنمائی کی مداخلتیں اور تادیبی کارروائیوں کا سلسلہ شامل ہے جن پر اسکولی عملہ درآمد کر سکتا ہے۔ ممکنہ رہنما مداخلتوں میں مشاورت، ثالثی اور رہنمائی کانفرنسیں شامل ہیں۔ برے طرز عمل پر منحصر، تادیبی کارروائیوں میں والدینی کانفرنس، روکے جانا، یا معطلی شامل ہیں۔

ضابطہ انضباط کا اطلاق تمام طلبا پر ہوتا ہے۔ اسکے علاوہ، ضابطہ انضباط میں طلبا کے حقوق اور ذمہ داریوں کا مسودہ اور تحفظاتی طریق کار کا اعلانیہ بھی شامل ہے۔ ضابطہ معذوری کے حامل طلبا کے لیے تحفظات سے بھی خطاب کرتا ہے، بشمول ان طلبا کے جن کا معذور ہونا تصور کیا گیا ہے۔

خاندانی شمولیت ہمارے تمام کام کا ایک اہم جز ہے، اور مضبوط اسکول تعمیر کرنے کے لیے جزو لازم ہے۔ ہم سب کے لیے ایک مضمولاتی تدریسی ماحول برقرار رکھنے میں آپکی شراکت کی قدر کرتے ہیں۔ ہماری اسکولی برادری کو ہمارے بچوں کے لیے بہتر، مضبوط اور محفوظ بنانے میں آپکے تعاون کا شکریہ۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو برائے مہربانی اپنے اسکول کی انتظامیہ سے رابطہ کریں۔

مخلص،

Carmen Fariña  
چانسلر